

5964- نصرانی عورت سے اس کے کافر بھائی کی موجودگی میں شادی کرنا

سوال

میں نے ایک نصرانی عورت سے زنا کیا جس سے وہ حاملہ ہوئی، میں نے اپنی جمالت کی بنا پر یہ سوچا کہ اس معاملے کو صحیح کرنا چاہیے، جس کے لیے ہم نے مسجد میں لڑکی کے کافر بھائی اور اس کی والدہ اور ایک مسلمان شخص اور مسجد کے امام کے روبرو شادی کر لی، شادی کے وقت وہ لڑکی مسلمان نہیں تھی لیکن ولادت سے قبل اس نے اسلام قبول کر لیا، تو ہماری اس شادی کا کیا حکم ہے؟

اس بچے کے بارہ میں کیا حکم ہے، اور اس کے علاوہ دوسری اولاد کا حکم کیا ہوگا؟

میں اپنے کیے پر نادم ہوں اور جس جاہلیت پر تھا واپس نہیں جانا چاہتا، اب مجھے یہ خدشہ ہے کہ کہیں ہماری یہ شادی غیر شرعی نہ ہو، جس کی بنا پر میں اپنے اسی گناہ کا مرتکب نہ ہوتا رہوں جو پہلے ہو چکا ہے۔

مجھے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ میں اس تنگی سے نکل سکوں؟

پسندیدہ جواب

الحمد للہ

یہ عقد نکاح فاسد ہوگا کیونکہ ایسی حالت میں ہوا تھا کہ لڑکی زنا سے حاملہ تھی، اور اس لیے بھی کہ یہ نکاح گواہوں کی غیر موجودگی میں ہوا ہے کیونکہ اس کے لیے دو مرد گواہ ہونے ضروری ہیں، اور اسی طرح عورت کے ولی کی طرف سے لمباج ہونا چاہیے۔

تو اس لیے اس نکاح کی تجدید ہونی چاہیے جس کے لیے عورت کا مسلمان ولی ہو یا پھر مسلمان قاضی کی طرف سے لمباج ہونا ضروری ہے، اور رہا مسئلہ اولاد کا تو وہ ان کے والد جس کے بستر پر پیدا ہوئے ہیں اس کی طرف ہی منسوب ہونگے، وہ ان میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کر سکتا کیونکہ بچہ بستر والے کا ہی ہوتا ہے۔

واللہ تعالیٰ اعلم۔